



سوال

(347) کام کی جگہ پر نماز کے لئے اذان

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے کام کی جگہ مسجد سے زیادہ دور نہیں ہے تو کیا ہم کی جگہ پر اذان کہہ سکتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تم لوگوں پر واجب یہ ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

«من سح النداء فلم یأت فلا صلوة الا من عذر» (سنن ابن ماجہ)

"جو شخص آذان سے اور پھر نماز کے لئے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔"

ہاں البتہ اگر تمہارے لئے کوئی جبری ممانعت ہو تو پھر اولہ شرعیہ کے عموم کے مطابق تمہارے لئے اپنے کام کی جگہ پر اذان و اقامت جائز ہے۔ (شیخ ابن باز)

حداماعمدی والنداعلم بالصواب

[فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1](#)

صفحہ نمبر 331

محدث فتویٰ